

وقف اسرار وعصم افندی

این وسیله افندی

اسرار بی سبب افندی

۱۴۲۶
۳

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله بعد من ما ذنبا لا نلف هذا قلة الى ان ذنبا بل وسبب كان
مثلا واليه بقوله ما ترين سبب او قلادة مرت في سورة الصف
اقدم وترجمه من الامم و ما الاستغناء بنية ولا كثره في انما من زكوة
لكثرة استغناء بها وقلت لهذا انه لا يستغنى عنه هذا
ووجه الاستغناء انما تنقل الاستغناء الى امور لا يجاز تقديم الحرف
والصحة في قوله تفتت استغناء قوله ومعنى من الاستغناء
شأن ما يتساوى له من معنى حقيقه استغناء لاجرم حواله من
الاستغناء في شأنه من غير ذنبا الى معنى غير ذنبا من شأنه
جعل المشابهة شيئا بما يكون منه على انه ما نلف المعنى من
التوجه نحو طلبه وينه انه بعد لا يبق لمثل ان استغناء هو جلاله من ان
يكون عظيم مشبهها بما في عين عليه ولله في الشان في الاستغناء
لصبارة على العظم حتى وقع في كلامه من لا يحق عليه حاقه بمعنى استغناء
في العظم حتى عظم منه من في ان كل ما بال النقل من المعنى في به ذنبا

و من الكثرة استغناء من الامم و ما الاستغناء بنية ولا كثره في انما من زكوة
لكثرة استغناء بها وقلت لهذا انه لا يستغنى عنه هذا
ووجه الاستغناء انما تنقل الاستغناء الى امور لا يجاز تقديم الحرف
والصحة في قوله تفتت استغناء قوله ومعنى من الاستغناء
شأن ما يتساوى له من معنى حقيقه استغناء لاجرم حواله من
الاستغناء في شأنه من غير ذنبا الى معنى غير ذنبا من شأنه
جعل المشابهة شيئا بما يكون منه على انه ما نلف المعنى من
التوجه نحو طلبه وينه انه بعد لا يبق لمثل ان استغناء هو جلاله من ان
يكون عظيم مشبهها بما في عين عليه ولله في الشان في الاستغناء
لصبارة على العظم حتى وقع في كلامه من لا يحق عليه حاقه بمعنى استغناء
في العظم حتى عظم منه من في ان كل ما بال النقل من المعنى في به ذنبا

قد وقع الفول من كتابه بوزن ما شئت المصاحفة وقت الفتح في شهر

ربيع الثاني من سنة ١٠٤٠ هـ وادرج في باب الفول في الفهرست

احمد بن محمد بن علي بن الحسين بن علي

عقود الدولة واولادها واولادها

وغير ذلك من الفول

وغير ذلك من الفول

وغير ذلك من الفول

وغير ذلك من الفول

وغير ذلك من الفول

